

28 جون 2018

**گارڈن اسکوائر میں برامپٹن کا پہلا پرائیڈ منائیں**  
**سٹی گارڈن اسکوائر میں 8 جولائی کو دن 12 سے رات 8 بجے تک پرائیڈ کے جشن کی میزبانی کرے گا**

برامپٹن، آن - 8 جولائی کو، پہلی دفعہ برامپٹن میں گارڈن اسکوائر میں پرائیڈ کا جشن منائیں!

پرائیڈ ان اسکوائر دن 12 سے شام 5 بجے تک منعقد ہو گا اور اس میں کئی مقامی اور قومی فنکاروں، مقررین، چہرے کے مصوروں، نمائشہ باز، اور بانس پر چلنے والے افراد کی جانب سے خاندان دوست اسٹیج مظاہرے اور ایک کمیونٹی فینر شامل ہو گا۔

اس تقریب کی میزبانی برامپٹن کے اپنے، ڈینیئل پیلائی، ایک مصنف، پروڈیوسر اور میڈیا کی شخصیت، کریں گے۔ اپنے قوی تصور (اور ٹریڈ مارک بلیزرز) کے ساتھ، انہوں نے اپنے منفرد انداز میں میڈیا کے منظر کا بیڑہ اٹھا لیا ہے۔

پوری سہ پہر براہ راست تفریح سے لطف اندوز ہوں۔ فے اور فلفی کا ڈریگ اسٹوری ٹائم سنیں، DIANA اور کینیڈین موباک، گلوکار۔ گانا نویس شاو نے کی آوازوں کو سنیں، III نانا ڈائیورس سٹی ڈانس کمپنی اور EJ کوانڈینز کا مظاہرہ دیکھیں اور DJ ریجینا جینٹلے کی چھیڑی ہوئی دھنوں پر ناچیں۔ مقامی فنکاروں میں سونیا شارٹر اور آر فلیکس شامل ہیں۔

کمیونٹی فینر کئی مقامی گروہوں کو قریب لائے گا، جو LGBTQ2IA+ کمیونٹی کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ یہ ان کئی گروہوں اور کمیونٹی کے لیے خدمات کے بارے سیکھنے کا ایک پر جوش موقع ہو گا۔

شام 5 سے رات 8 بجے تک بعد کی پارٹی نہ چھوڑیں۔ DJ سکھ نالج دی روز پاشیو پر اپنی دھنوں کا جادو جگائیں گے، جہاں بار سروس دستیاب ہو گی۔

تمام لوگوں کو اس خصوصی دن پر گارڈن اسکوائر میں خوش آمدید کہا جاتا ہے! پرائیڈ ان دی اسکوائر کے متعلق مزید جاننے کے لیے اور گارڈن اسکوائر کے پروگراموں کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے [brampton.ca/gardensquare](http://brampton.ca/gardensquare) ملاحظہ کریں۔

#### اقتباس

"برامپٹن تمام منفرد کمیونٹیوں کو خوش آمدید کہتا ہے اور ان کو اپناتا ہے، جو ہمارے شہر کے متنوع منظر کا حصہ ہیں۔ ہم سٹی کے پہلے پرائیڈ جشن کی میزبانی کر کے بے حد فخر محسوس کر رہے ہیں اور ہم اپنے رہائشیوں اور سیاحوں کو 8 جولائی کو گارڈن اسکوائر میں شرکت کرنے کی دعوت دیتے ہیں"

- میئر لنڈا جیفری

30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

